

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن

نئی دہلی

پریس ریلیز

10 اکتوبر 2020

اسکولوں میں اردو ہندی زبان و ادب کی تدریس پر جامعہ میں سیمینار کا انعقاد

ڈپارٹمنٹ آف ٹیچر ٹریننگ اینڈ نان فارمل ایجوکیشن (آئی اے ایس ای) جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی اور عظیم پریم جی یونیورسٹی، بنگلور کے ذریعہ اسکول کی تعلیم میں اردو ہندی زبان اور ادب سے متعلق امور پر تین روزہ قومی ویبنار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔

آن لائن منعقد ہونے والا یہ سیمینار جامعہ ملیہ اسلامیہ کی صد سالہ تقریبات کا ایک حصہ ہے۔ سیمینار کے افتتاحی تقریب کا آغاز، بروز جمعہ 9 اکتوبر 2020 صبح گیارہ بجے، جامعہ کی روایات کے مطابق تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اس کے بعد جامعہ کے عزائم کا عکاس، جامعہ کا ترانہ پیش کیا گیا۔

صدر شعبہ، پروفیسر سارہ بیگم نے جامعہ ملیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر (مہمان خصوصی)، معزز مہمانان، ماہرین تعلیم اور علم و ادب کا شوق رکھنے والے دیگر اشخاص اور طلباء کا باضابطہ استقبال کیا۔

فیکلٹی آف ایجوکیشن کے ڈین پروفیسر اعجاز مسیح نے وائس چانسلر کا تعارفی کلمات کے ساتھ استقبال کیا۔ افتتاحی خطاب جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے کیا، جس میں انہوں نے بانیان جامعہ اور گاندھی جی کے ذریعہ ہندوستان کے مشترکہ نظریات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس قسم کے مزید تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔

پروفیسر محمد اختر صدیقی نے جامعہ کی اس شاندار تاریخ اور اسکے فلسفہ پر سیر حاصل گفتگو کی، انہوں نے جامعہ : ایک مشن ایک عزم کا ذکر بڑے ہی بلیغانہ انداز میں کیا۔

عظیم پریم جی یونیورسٹی سے وابستہ ڈین اکیڈمکس، پروفیسر بردیہ کانت دیوان نے اے پی یو کے 'انواد پہل' اور سیمینار سیریز کے تناظر پر گفتگو کرتے ہوئے عظیم پریم جی فائونڈیشن کے عزائم پر روشنی ڈالی۔

افتتاحی تقریب کا اختتام، ویبنار کی کوآرڈینیٹر، پروفیسر گرجیت کور کے شکریہ کے ساتھ ہوا۔

احمد عظیم

پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر